



## Noble Quran      القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

حضرت شاہ عبدالقدیر (ع) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة المعارج بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَأَلَ سَائِلٌ بَعْدَ أَبٍ وَاقِعٍ

ما نَگا ایک ما نگنے والے، عذاب پڑنے (ہونے) والا،

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

منکروں کے واسطے کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا۔

مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ

(ہو گا وہ) اللہ کی طرف کا، جو چڑھتے درجوں کا صاحب۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةً

چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن میں جس کا نباؤ (مقدار) پچاس ہزار برس ہے۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا

سو تو صبر کر، بھلی طرح کا صبر کرنا۔

.1

.2

.3

.4

.5

.6

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا

وَهُدِيكُتْهُ هُنَّ اسْكُنْدِيْر،

.7

وَنَرَاهُ أَهْرَارِيَا

اوْهُمْ دِيكُتْهُ هُنَّ اسْكُنْدِيْر.

.8

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهَلِّ

جَسْ دَنْ هُوْ گَا آسَانْ جِيْسِيْ تَانِبَا پَگَلَا،

.9

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

اوْهُوْں گے پَہاڑِ جِيْسِيْ اوْنِ رَنْگِیْ.

.10

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

اوْرَنَہ پُوچَھے دُوْسَدَارِ دُوْسَدَارِ کو.

.11

يُبَصِّرُوْهُمْ

سَبْ نَظَرَ آجَائِیْنَ گے ان کو.

.12

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ

اوْسَاتِھُوا لِی (بیوی)، اوْرْ بھائی،

.13

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْدِيهِ

اور اپنا گھر ان جس میں رہتا تھا،

.14

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُتْجِيهُ

اور جتنے زمین پر ہیں سارے، پھر آپ (خود) کو بچائے۔

.15

كَلَّا إِنَّهَا لَنَّى

کوئی (ہرگز) نہیں! وہ پتی آگ ہے،

.16

نَزَّاعَةً لِلشَّوَّى

کھیج لینے والی کلیجہ،

.17

تَدْعُونَ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّ

پکارتی ہے اس کو جس نے پیچھے دی (پھری) اور پھر گیا،

.18

وَجَمَعَ فَأَوْعَى

اور اکٹھا کی (مال) اور سینتا (سنپھالا)۔

.19

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوقًا

بیشک آدمی بناء ہے جی کا کچا (بے صبرا)،

.20

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا

جب لگے اس کو برائی تو گھابرنا (گھبرایا)،

.21

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْوِعًا

اور جب لگے اس کو بھلائی، تو ان دیوا (ہو بخیل)،

.22

إِلَّا الْمُصَلِّيُّنَ

مگر وہ نمازی،

.23

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

جو اپنی نماز پر قائم ہیں،

.24

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

اور جن کے مال میں حصہ گھر رہا (مقرر) ہے،

.25

لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

ما نگتے (سائل) کا اور ہارے (مسکین) کا،

.26

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ

اور جو تیقین کرتے ہیں انصاف کے دن کو،

.27

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ

اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں،

.28

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

بیشک اُن کے رب کے عذاب سے نذر (بے خوف) نہ ہوا جائے،

.29

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

اور جو اپنی شہوت کی جگہ تھامتے (حفاظت کرتے ہیں)،

.30

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُوا إِيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

مگر اپنی جور و وسی سے، یا اپنے ہاتھ کے مال (ملک) سے، سوان پر نہیں اولاد ہنا (لامت)۔

.31

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

پھر جو کوئی ڈھونڈھے اس کے سوسو ہی ہیں حد سے بڑھتے۔

.32

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاوِعُونَ

جو اپنی دھڑدھریں (امانتیں) اور اپنا قول (ثابت قدم) ہیں،

.33

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

اور جو اپنی گواہی پر سیدھے (ثبت قدم) ہیں،

.34

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

اور جو اپنی نماز سے خبردار (حفاظت کرتے) ہیں۔

.35

أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكَرَّمَةٍ

وہ ہیں بغول میں عزت سے۔

.36

فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَقِبَلُكَ مُهْطِعِينَ

پھر کیا ہوا ہے منکروں کو تیری طرف دوڑتے آتے ہیں،

.37

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَاءِ عَزِيزٌ

دہنے سے اور بائیں سے جٹ کے جٹ (گروہ در گروہ)۔

.38

أَيْطُمَعُ كُلُّ أُمَّرَىءٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

کیا لمح رکھتا ہے ہر ایک ان میں کہ داخل کریے نعمت کے باغ میں۔

.39

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ بِمَا يَعْلَمُونَ

کوئی (ہرگز) نہیں! ہم نے ان کو بنایا ہے جس چیز سے جانتے ہیں۔

.40

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ الْقَادِرَ مَوْنَ

سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں مغربوں کے مالک کی، ہم سکتے ( قادر ) ہیں کہ

.41

عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ حَيْثُ أَمْنُهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقَينَ

بدل کر لے آئیں ان سے بہتر، اور ہم سے چپر ( بڑھ ) نہ جائیں گے۔

.42

فَذَرْهُمْ يَخْوُضُوا وَيَلْبُو اَحَقَّيْ يَلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

سو چھوڑ دے انکو، باقیں بنائیں اور کھلیں جتنک بھریں ( ملیں ) اپنے اس دن سے جسکا ان سے وعدہ ہے۔

.43

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سَرَّا اَغَّا كَاهَهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفْضُونَ

جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے، جیسے کسی نشانے پر دوڑتے جاتے ہیں۔

.44

خَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَّةٌ

نوی ( پنجی ) ہیں ان کی آنکھیں، چڑھی آتی ہے ان پر ذلت۔

ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ ہے۔

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)